

آپ کو نیویارک شہر میں مقامی پابندیوں کے بارے میں کیا جاننے کی ضرورت ہے

COVID-19 کا نیو یارک سٹی (NYC) میں کچھ پڑوسوں میں کمیونٹی کی سطح پر پریشان کن اضافے کے ساتھ پھیلاؤ جاری ہے۔ NYC تین زونز میں پابندی کا نفاذ کر کے کارروائی کر رہی ہے جن کی اسٹیٹ کی جانب سے ان رنگوں کے لحاظ سے نشاندہی کی گئی ہے — سرخ، نارنجی، پیلا۔ اپنے زون کو تلاش کرنے کے لیے ذیل کو ملاحظہ کریں: nyc.gov/COVIDZone

سرخ زون

اسکول

نیویارک سٹی کے تمام سرکاری اسکولوں اور غیر سرکاری اسکولوں کو مکمل طور پر بند ہونا ہو گا اور ریموٹ تعلیم کی طرف لوٹنا ہو گا۔

کاروبار

تمام غیر ضروری کاروباروں کو بند کرنا ضروری ہے۔ صرف نیویارک اسٹیٹ ایمپائر اسٹیٹ ڈویلپمنٹ کارپوریشن کے نامزد کردہ [ضروری کاروبار](#) ہی کھلے رہ سکتے ہیں۔

فوڈ سروس اسٹبلشمنٹس

ریستوران، بار، کیفے اور دیگر فوڈ سروس اسٹبلشمنٹس صرف ٹیک آؤٹ اور ڈیلیوری کی خدمت ہی فراہم کر سکتی ہیں۔ اندرون خانہ یا بیرون خانہ کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔

عبادت گاہیں

عبادت گاہیں % 25 گنجائش یا زیادہ سے زیادہ 10 افراد تک، جو بھی کم ہو، اس حساب سے کھلی رہ سکتی ہیں۔

اجتماعات

کسی بھی سائز کے غیر ضروری اجتماعات پر پابندی ہے اور انہیں ملتوی یا منسوخ کر دینا چاہیے۔ کوئی بھی شخص جو بڑے پیمانے پر اجتماعات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، انہیں فروغ دیتا ہے یا ان کا اہتمام کرتا ہے، اسے \$ 15,000 فی دن تک کا جرمانہ ہوسکتا ہے۔

نارنجی زون

اسکول

نیویارک سٹی کے تمام سرکاری اسکولوں اور غیر سرکاری اسکولوں کو مکمل طور پر بند ہونا ہو گا اور ریموٹ تعلیم کی طرف لوٹنا ہو گا۔

کاروبار

جم اور فٹنس سنٹرز سمیت کاروبار، اور ذاتی نگہداشت کی خدمات، جن میں حجام، ہیئر سیلون، اسپاز، ٹیٹو یا چھیدنے والے پارلر، ناخنوں کے ٹیکنیشن اور ناخنوں کے سیلون، کاسمیٹولوجسٹ، ایسٹھٹیشنز، لیزر سے بال ہٹانا اور الیکٹرولیزیس کی فراہمی وغیرہ شامل ہیں، ان سب کو بند کرنا ضروری ہے۔

فوڈ سروس اسٹبلشمنٹس

ریستوران، بار، کیفے اور دیگر فوڈ سروس اسٹبلشمنٹس صرف بیرون خانہ کھانا کھانے اور ٹیک آؤٹ اور ڈیلیوری کی خدمت ہی فراہم کر سکتی ہیں۔ فی میز زیادہ سے زیادہ چار افراد کی حد متعین ہے۔ اندرون خانہ کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔

عبادت گاہیں

عبادت گاہیں % 33 گنجائش یا زیادہ سے زیادہ 25 افراد تک، جو بھی کم ہو، اس حساب سے کھلی رہ سکتی ہیں۔

اجتماعات

اندرون خانہ اور بیرون خانہ، دونوں طرح کی ترتیبات کے لیے غیر ضروری اجتماعات کو زیادہ سے زیادہ 10 افراد تک محدود کرنا چاہیے۔ کوئی بھی شخص جو بڑے پیمانے پر اجتماعات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، انہیں فروغ دینا ہے یا ان کا اہتمام کرنا ہے، اسے \$ 15,000 فی دن تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔

پیلازون

اسکول نیویارک سٹی کے تمام سرکاری اسکول اور غیر سرکاری اسکول کھلے رہ سکتے ہیں۔ نیویارک اسٹیٹ کی جانب سے ٹیسٹنگ کے حوالے سے رہنمائی جمعہ، 9 اکتوبر، 2020 کو جاری کی جائے گی۔

کاروبار

تمام کاروبار کھلے رہ سکتے ہیں لیکن ان کو اپنے شعبے پر لاگو ہونے والے COVID-19 کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے۔

فوڈ سروس اسٹیٹسمنٹس

اندرون خانہ اور بیرون خانہ کھانا کھانے کی اجازت ہے۔ فی میز زیادہ سے زیادہ چار افراد کی حد متعین ہے۔

عبادت گاہیں

عبادت گاہیں زیادہ سے زیادہ 50% گنجائش کے ساتھ کھلی رہ سکتی ہیں۔

اجتماعات

اندرون خانہ اور بیرون خانہ، دونوں طرح کی ترتیبات کے لیے غیر ضروری اجتماعات کو زیادہ سے زیادہ 25 افراد تک محدود کرنا چاہیے۔ کوئی بھی شخص جو بڑے پیمانے پر اجتماعات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، انہیں فروغ دینا ہے یا ان کا اہتمام کرنا ہے، اسے \$ 15,000 فی دن تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔

تمام زونز

نیویارک کے تمام باشندے COVID-19 کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کے لیے کچھ آسان اقدامات کر سکتے ہیں:

- گھر پر رہیں: گھر میں ہی رہیں، خاص طور پر اگر آپ بیمار ہیں، جب تک کہ آپ ضروری طبی نگہداشت یا دیگر ضروری کاموں کے لیے گھر سے باہر نہ جانا پڑے۔
- جسمانی فاصلہ: دوسرے لوگوں سے کم از کم 6 فٹ کے فاصلے پر رہیں۔ بڑے اجتماعات، خاص طور پر اندرون خانہ مجالس میں شرکت نہ کریں۔ جب آپ نے چہرے پر نقاب پہن رکھا ہو، تب بھی اپنے اور دوسروں کے درمیان محفوظ فاصلہ رکھنا یاد رکھیں۔
- چہرے پر نقاب پہنیں: اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حفاظت کریں۔ آپ علامات کے بغیر بھی متعدی ہو سکتے ہیں اور اس وقت بیماری پھیلا سکتے ہیں جب آپ کھانستے، چھینکتے یا بات کرتے ہیں۔ چہرے کے نقاب جب صحیح طرح سے پہنے جائیں (آپ کی ناک اور منہ دونوں کو ڈھانپے) تو یہ COVID-19 کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔
- ہاتھوں کی صحت مند حفظان صحت پر عمل کریں: اپنے ہاتھوں کو اکثر صابن اور پانی سے دھوئیں یا اگر صابن اور پانی دستیاب نہ ہوں تو ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں؛ بار بار چھونے والی سطحوں کو باقاعدگی سے صاف کریں؛ ان دھلے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھونے سے پرہیز کریں، اور کھانسی اور چھینکوں کو اپنے ہاتھوں کی بجائے اپنی بازو سے ڈھانپیں۔
- ٹیسٹ کروائیں: اپنے قریب ٹیسٹ کروانے کی سائٹ تلاش کرنے کے لیے nyc.gov/covidtest ملاحظہ کریں یا 212-268-4319 پر کال کریں۔ ٹیسٹنگ بہت ساری سائٹوں پر مفت ہے، بشمول ہیلتھ + ہسپتالز اور NYC محکمہ صحت کے تحت چلنے والی تمام سائٹس۔

COVID-19 کے بارے میں عمومی معلومات کے لیے nyc.gov/health/coronavirus ملاحظہ کریں۔

10.7.20

صورتحال کے ارتقاء کو مدنظر رکھتے ہوئے نیویارک سٹی سفارشات تبدیل کر سکتا ہے۔